

ضروری چیزیں لکھوائیں اور ترجمہ کرائیں۔ اور پھر ترقی اردو کی تنظیم کو تقسیم سے قبل ہی برصغیر میں شاخ در شاخ پھیل دیا۔ اور بعد میں بھی توسیع ہو رہی ہے۔
مولوی صاحب کو کسی اور پہلو سے نہ جانچیے، بس اردو والوں کی حیثیت سے دیکھیے، اردو اردو کہتے کہتے وہ عظمت کے ایک منارہ یلند میں بدل گیا۔
یہ نمبر مولوی صاحب کی تصویر ہستی کے مختلف رخ اور ان کی خدمت اردو کی داستان کے کئی ابواب پیش کرتا ہے۔

افسوس کہ ہماری حکومت نے اردو کو قومی زبان بنا دینے کے لیے تیس سال کی جو دستوری مہلت طے کی تھی، اب دستوری زمین کے ذریعہ اسے اور آگے بڑھایا جانے والا ہے۔ یا سرے سے لٹ ختم بھی کی جاسکتی ہے۔ کاش مولوی صاحب کو دوبارہ یہاں بلایا جاسکتا کہ وہ اکابر قوم کو شرم دلائیں۔ یہ لوگ اسلام کی خدمت کی سعادت سے محروم کہہ ہی دیئے گئے ہیں، ان سے اردو کو صحیح حیثیت دلانے کا کام بھی نہ ہو سکا۔

ترجمان الحدیث (دو حصے) مرتبہ سید محمود الحسن صاحب فاضل دیوبند۔ مدرسہ جامع العلوم معصوم شاہ روڈ ملتان - ناشر: اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ لاہور (پاکستان)
قیمت حصہ اول / ۳۶ روپے - قیمت حصہ دوم / ۴۲ روپے -
حدیث کے منتخب مجموعوں اور ان کے اردو میں ترجموں کی بہت ضرورت ہے اور جماعت اسلامی کی توسیع کے ساتھ یہ ضرورت بڑھتی جاتی ہے۔

میں جناب مولف کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں۔ اور ان کے اس کام کو بھی میں نے پسند کیا۔ انہوں نے اپنی سوچ بچار کے مطابق دس ابواب بنا کر مختلف عنوانات کی احادیث کو منتخب کر کے مرتب کیا ہے۔ پھر ہر حدیث کا پورا ترجمہ دیا ہے۔ اور پھر مختصراً اس کی اچھی طرح تشریح کر دی ہے۔ یہاں تک کہ اوسط درجے کے تعلیم یافتہ اصحاب بخوبی بات سمجھ سکتے ہیں۔ ابواب ایسے ہیں اور ان میں مسائل ایسے آگئے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی ہی زندگی کے